

کھانے کی حفاظت اور تازگی

ضروریات کا مجموعہ / بنڈل

کھانے تک رسائی پانے والے ہمارے پڑوسیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے، تمام تازہ کھانا جو فوڈ فار لائف کے ذریعہ بچایا جاتا ہے، کو سنبھالنے، ذخیرہ کرنے اور ٹرانسپورٹ کے لئے سخت حکومتی رہنما خطوط کے مطابق ترتیب دیا اور پیک کیا جاتا ہے۔

موجودہ صورتحال میں ہم جہاں تازہ کھانے کے تھیلے۔ ہمارے ضروری سامان کا بنڈل۔ پیک کرتے ہیں، ہم نے یہ تھیلے تیار کرتے وقت حفظانِ صحت میں اعلیٰ ترین سطح کو یقینی بنایا ہے۔ تاہم، پھر بھی ہم آپ کو درج ذیل بہترین طریقوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں:

- تمام تازہ کھانا اچھی طرح سے دھونا
- کسی بھی ڈبے کو کھولنے سے قبل، اس کی اوپری سطح کو صابن اور پانی سے دھونا
- اپنے کھانے کو اچھی طرح سے پکانا
- اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا اور سینی ٹائیز کرنا

اگر آپ کو ضروریات کا ایک مجموعہ / بنڈل مل رہا ہے تو اس کا مقصد اس غیر یقینی وقت میں آپ کو فوری مدد فراہم کرنا ہے اور اس میں بازیافت، عطیہ اور خریداری کی گئی خوراک کا ایک مجموعہ شامل ہے۔ کیونکہ ضروری سامان کی فراہمی کو سخاوت، کاروباروں اور ہالٹن ریجن کے باہمی تعاون سے یقینی بنایا جاتا ہے۔

فوڈ فار لائف موجودہ صورتحال کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور صحت عامہ کی ایجنسیوں کی سفارشات پر عمل کرتا ہے۔

استعمال کے لئے بہترین وقت کی حد

تاریخ سے پہلے تک بہترین (بیسٹ بی فور ڈیٹ)، جسے پائیدار زندگی کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ پہلے سے بیک شدہ کھانے کی پائیدار مدت کب ختم ہوتی ہے۔

پائیدار زندگی کا مطلب متوقع وقت کی مدت ہے جو ایک نہ کھولے ہوئے کھانے کی مصنوعات، جب اسے مناسب شرائط کے تحت ذخیرہ کیا جاتا ہے، کہ کھانا، برقرار رکھے گا:

تازگی، ذائقہ، غذائیت، یا بنانے والے کے ذریعہ دعویٰ کردہ کوئی دوسری خصوصیات۔

تاریخ سے پہلے تک بہترین کا چارٹ۔ ایک اور ایچمنٹ